



FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION
COMPETITIVE EXAMINATION - 2016
FOR RECRUITMENT TO POSTS IN BS-17
UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT

Roll Number

ISLAMIC STUDIES

TIME ALLOWED: THREE HOURS PART-I(MCQS): MAXIMUM 30 MINUTES	PART-I (MCQS) PART-II	MAXIMUM MARKS = 20 MAXIMUM MARKS = 80
NOTE: (i) Part-II is to be attempted on the separate Answer Book. (ii) Attempt FOUR questions from PART-II . ALL questions carry EQUAL marks. (iii) All the parts (if any) of each Question must be attempted at one place instead of at different places. (iv) Candidate must write Q. No. in the Answer Book in accordance with Q. No. in the Q.Paper. (v) No Page/Space be left blank between the answers. All the blank pages of Answer Book must be crossed. (vi) Extra attempt of any question or any part of the attempted question will not be considered.		

PART-II

- Q. No. 2.** What is meant by culture and civilization? Describe the characteristics of Islamic culture. (20)
- Q. No. 3.** What is the difference between Deen and Religion? Describe the importance of Deen in human life with arguments. (20)
- Q. No. 4.** Describe the characteristics of Military strategist in the light of Sirah of Muhammad (PBUH) with arguments. (20)
- Q. No. 5.** Define the meaning of prayer and its different categories. Also describe the spiritual, moral and social impact of prayers. (20)
- Q. No. 6.** Highlight the concept of Public Administration in Islam. Explain the responsibilities of Civil Servants. (20)
- Q. No. 7.** Discuss the salient features of Islamic political system in the light of governance under pious Khilafat-i-Rashida. (20)
- Q. No. 8.** What are the contemporary challenges of Muslim world? Suggest its solutions in the light of Quran and Sunnah? (20)

URDU VERSION

سوال نمبر 2: تہذیب و تمدن سے کیا مراد ہے؟ اسلامی تہذیب کی خصوصیات بیان کیجیئے۔
(20)

سوال نمبر 3: دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کو دلائل سے واضح کیجیئے۔
(20)

سوال نمبر 4: سیرتِ طیبہ محمدؐ کی روشنی میں عظیم سپہ سالار کی خوبیاں بیان کیجیئے۔
(20)

سوال نمبر 5: نماز کا مفہوم اور اس کی مختلف انواع لکھیئے۔ نیز اس کی روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات بیان کیجیئے۔
(20)

سوال نمبر 6: اسلام میں پبلک ایڈمنسٹریشن پر روشنی ڈالتے ہوئے سرکاری ملازمین کی ذمہ داریوں کی وضاحت کیجیئے؟
(20)

سوال نمبر 7: خلافتِ راشدہ کی طرزِ حکمرانی کی روشنی میں اسلام کے سیاسی نظام کی نمایاں خوبیاں بیان کریں۔

(20)

سوال نمبر 8: عصرِ حاضر میں امتِ مسلمہ کو کونسے مسائل درپیش ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل تجویز کیجئے؟

(20)
